

Attempt questions

¹ An equation $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is of form:

- a) Radical
- b) Exponential
- c) Reciprocal
- d) None of these

مساویات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے: ¹

- a) جذری
- b) قوت نمائی
- c) معکوس
- d) None of these

² Equation $3^{2-x} + 6 = 0$ is of type:

- a) Exponential
- b) Radical
- c) Reciprocal
- d) None

مساویات $3^{2-x} + 6 = 0$ کی قسم ہے ایک: ²

- a) جذری مساویات
- b) معکوس مساویات
- c) ان میں سے کوئی نہیں
- d) دو درجی فارمولہ

³ The Quadratic formula is:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & \text{b) } x = \frac{+b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ \text{c) } x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & \text{d) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{a) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & \text{b) } x = \frac{+b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ \text{c) } x = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & \text{d) } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a} \end{array}$$

⁴ Two factors of $x^2 - 15x + 56 = 0$ are

- a) $(x+8)(x-8)$
- b) $(x-8)(x+7)$
- c) $(x-8)(x-7)$
- d) $(x+8)(x+7)$

$x^2 - 15x + 56 = 0$ کے دو اجزاء ضرbi ہیں: ⁴

- a) $(x+8)(x-8)$
- b) $(x-8)(x+7)$
- c) $(x-8)(x-7)$
- d) $(x+8)(x+7)$

⁵ An equation which remains unchanged replacing x by $1/x$ is called:

- a) Exponential equation
- b) Reciprocal equation
- c) Radical equation
- d) None of these

وہ مساویات جس میں x کی جگہ $1/x$ درج کرنے سے بے تبدیلی نہ ہو کہلاتی ہے: ⁵

- a) قوت نمائی مساویات
- b) معکوس مساویات
- c) جذری مساویات
- d) ان میں سے کوئی نہیں

⁶ Number of ways to solve quadratic equation are:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

دو درجی مساویات کو حل کرنے کے طریقے ہیں: ⁶

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

⁷ Number of terms in standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

معیاری دو درجی مساویات $ax^2 + bx + c = 0$ میں راقم کی تعداد ہے: ⁷

⁸ Equation is $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ called:

- a) Reciprocal
- b) Radical
- c) Exponential
- d) None

مساویات $2x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x + 2 = 0$ کہلاتی ہے ایک: ⁸

- a) معکوس
- b) ریڈیکل
- c) قوت نمائی
- d) None